



**SCHEDULE OF
BANK CHARGES**
July 1st, 2024 to December 31st, 2024

بینک چارجز کا جدول
یکم جولائی، 2024 تا 31 دسمبر، 2024



021-111-11-7632



www.sindhbank.com.pk



[sindhbanklimitedofficial](https://www.facebook.com/sindhbanklimitedofficial)



[sindhbankltd](https://www.instagram.com/sindhbankltd)



[company.sindh-bank-limited](https://www.linkedin.com/company/sindh-bank-limited)

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	حصہ
بین الاقوامی بینکاری	
۱-۳	الف درآمدات
۳-۴	ب برآمدات
۴-۵	ج ترسیلات
۵-۶	د متفرق چارجز
اندرون ملک بینکاری	
۶-۷	الف ترسیلات
۷-۹	ب اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ / بلز
۹-۱۱	ج قرضہ جات / زرعی قرضہ جات
۱۱-۱۲	د قرضہ جات برائے صارف
۱۲	ہ مستقل ہدایات کی فیس
۱۲-۱۳	و اُن تمسکات کی خرید و فروخت جو سیف کسٹڈی یا سیف ڈیپازٹ لاکر میں ہوں
۱۳-۱۴	ز ضمانتیں
۱۵-۱۶	ح متبادل ذرائع بینکاری
۱۶	ط متفرق چارجز
۱۷	ظ سندھ بینک کی منفرد ڈپازٹ اسکیمز
۱۸	عمومی اطلاعات

بین الاقوامی بینکاری

حصہ الف	درآمدات	
(i) (الف)	لیٹرز آف کریڈٹ۔ 10 ملین روپے تک 10 ملین روپے سے زیادہ 50 ملین روپے تک 50 ملین روپے سے زیادہ 150 ملین روپے تک 150 ملین روپے سے زیادہ	پہلی سہ ماہی اگلی سہ ماہیاں 0.40 فیصد 0.30 فیصد 0.20 فیصد 0.15 فیصد 0.10 فیصد کم از کم 1,200/- روپے
(الف) (i) (الف) (ii)	ایل سی 30 ملین روپے تک بحوض رہن برائے سندھ بینک میں رکھے گئے ملکی یا غیر ملکی کرنسی کے ڈپازٹ ایل سی بحوض 100 فیصد کیش مارجن یا اگر سندھ بینک کے بلا منافع روپے ڈپازٹ کو رہن رکھا جائے۔	0.10 فیصد 0.05 فیصد کم از کم 1,000/- روپے 'کچھ نہیں' بحوض 100 فیصد کیش مارجن جو کہ علیحدہ ٹریڈ مارجن اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا۔ 1,000/- روپے صرف۔
نوٹ: درج بالا کمیشن میں مجاز اتھارٹی اور شریعہ کی منظوری سے رد و بدل کیا جاسکتا ہے جبکہ انحصار برائے سالانہ حجم / قدر اور کسٹمر کے ساتھ کسی بندوبست پر ہے۔		
(ب)	مبادعہ ہونے والی ایل سی کی تجدید	اسی کمیشن کا اطلاق ہوگا جیسے ہرنی ایل سی کیلئے الف (۱) پر درج ہے۔
(ج)	متعلقہ کمیشن	اسی کمیشن کا اطلاق ہوگا جیسے ہرنی ایل سی کیلئے الف (۱) پر درج ہے۔
(د)	ایل سی کی منسوختی کا معاوضہ	1,000/- روپے + سوئفٹ معاوضہ
(ii) (الف) (ب)	بارٹرز، امداد، قرضوں کے تحت غیر قابل ادائیگی ایل سیز سپلائرز، ہائزڈ کریڈٹ "پے ایزیوارین" اور ڈیفیوڈ کھولنے سے لے کر ختم میعاد میٹ کے تحت ایل سیز جب تک مدت ایک سال سے زائد ہو اگر بلز میعاد یا ڈیفیوڈ ایل سی کے تحت ہوں نہ کہ پے ایزیوارین اسکیم، سپلائرز، ہائزڈ کریڈٹ، سالانہ مدت کے	ایک فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ 0.30 فیصد برائے ہر آئندہ سہ ماہی کم از کم تین سو روپے کمیشن @ 0.5% فی سہ ماہی یا اس کا حصہ (ایل سی کھولنے وقت ایل سی کی پوری رقم بشمول اس سود کے جو ایل سی کے اختتام تک ہوگا وصول کیا جائیگا اسکے بعد کمیشن ہر چھ ماہ بعد ایل سی کے کم ہونے والی رقم پر وصول ہوگا) 0.50 فیصد فی سہ ماہی قلیلت جب تک کہ ایل سی کی مدت ختم ہو جائے اور معیاد کے گزر جانے کے بعد بھی کوئی کمیشن نہیں لیا جائے گا۔
(iii)	ترمیم	کم از کم 1,500/- روپے قلیلت یا وہ کمیشن جو اوپر (الف) یا (الف ا) پر درج ہے۔ اگر ترمیم کا تعلق ایل سی کی رقم میں اضافے یا پینٹنٹ کی مدت میں توسیع سے ہو تو سوئفٹ / کوریئر چارجز۔

بین الاقوامی بینکاری

(500/- روپیہ) (فلیٹ) کسی دوسرے بینک کو درآمدی اختیار منتقل کرنے کیلئے -/125 روپیہ	کسٹمر کی جانب سے درخواست، تجدید مدت جوائنٹ پورٹ پر موشن پیورو یا سرکاری ادارے کیلئے ہو۔	(iv)
20 فیصد سالانہ جمع دیگر اخراجات (اگر کوئی ہوں) بمطابق بینک چارجز کا جدول۔ معیادی بلز 20 فیصد سالانہ جمع دیگر اخراجات اگر بمطابق بینک چارجز کا جدول اگر کوئی ہوں۔ اگر درآمد کنندہ معیاد پر ادائیگی نہ کرے تو مکمل ادائیگی کی تاریخ تک وصولی کی جائے گی۔	درستی ایل سی کے تحت درآمدی بل پر مارک اپ۔ تاخیری مارک اپ PAD لاجنٹ / گھنٹی ایٹن کی تاریخ سے ادائیگی کی تاریخ تک۔ یونٹس / مؤخر تاریخ ادائیگی ایل سی	(v) (الف) (الف i)
30 پیسہ فی -/100 روپے 20 یوم کی مدت گزرنے کے بعد، کم از کم -/1,000 روپے -/750 روپے فلیٹ بلز کی ریٹائرمنٹ کے وقت	تاخیری کیشن اگر دستاویزات گھنٹی ایٹن، ترسیل زر کے 20 یوم کے اندر نہ دیا کرائی گئیں ایل سی کے تحت جاری ہونے والے یونٹس بلوں پر کیشن	ب ج
0.5 فی صد فی سہ ماہی - اوپر دی گئی تفصیل کے مطابق۔	یونٹس بل پر قبولیت کا کیشن اگر ادائیگی کی تاریخ ایل سی کی مدت گزرنے کے بعد کی ہے۔	د
نوٹ: - دستاویزات کی گھنٹی ایٹن سے پہلے اگر 100 فی صد منافع کے بغیر کیش مارجن فراہم کر دیا گیا ہو تو گھنٹی ایٹن سے لاجنٹ کی تاریخ تک کوئی مارک اپ وصول نہیں کیا جائیگا۔ - اگر درآمد کنندہ کے بینک کے کوریج شیڈول، سوئفٹ کے اطلاعی پیغام پر ہمارے اکاؤنٹ ڈیبٹ ہونے کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہو گا تو مارک اپ اس تاریخ سے مؤثر ہو گا اور وصول کیا جائے گا۔ - مجاز اتھارٹی کی منظوری سے شرح مارک اپ میں تبدیلی کی جاسکتی ہے جو برنس کا حجم، قدر اور کسٹمر کے ساتھ بندوبست پر منحصر ہوگی۔ - اگر دستاویزات کی وصولی پر ادائیگی کر دی جائے تو مارک اپ ترسیل زر کی تاریخ سے وصول ہوگا۔	تاخیری FIM اور FATR/FE25 / وغیرہ	ه
برائے پاکستانی کرنسی: منظوری ایڈوائس یا 55 پیسہ فی -/1,000 روپے یومیہ برائے غیر ملکی کرنسی: مارک اپ لائیکور +5 فیصد سالانہ برائے فارن کرنسی (FE25) اکاؤنٹس مقررہ تاریخ سے ادائیگی تک۔ -/100 ڈالر فلیٹ کلیمنگ بینک سے بحرحہ کو ریٹائر چارجز اور دیگر چارجز اگر کوئی ہوں	ادائیگی کے بغیر واپس ہونے والے امپورٹ بل	(vi)
-/750 روپیہ فلیٹ فی کلیمشن تمام امپورٹ بلز بشمول کھلے ہوئے اکاؤنٹ اور ایڈوائس سمیت (1) 0.15 فی صد فلیٹ کم از کم -/800 (2) -/350 روپے فلیٹ ہر ترمیم پر۔ رقم مدت میں اضافے کی صورت میں 0.15 فی صد کم از کم -/350 روپے	دستاویزی کلیمشن درآمداتی معاہدوں کی رجسٹریشن درآمدی معاہدوں میں ترمیم	(vii) الف ب ج
نوٹ: برنس کے سالانہ حجم، قدر اور کسٹمر کے ساتھ کسی بندوبست کے پیش نظر درج بالا کیشن میں مجاز اتھارٹی کی اجازت سے رو و بدل کیا جاسکتا ہے۔		

بین الاقوامی بینکاری

1,000/- روپیہ فلیٹ + سوئفٹ چارجز	د	بغیر ایل سی یا ان رجسٹرڈ کنٹریٹ کی درآمدات کے تحت رقم کی ترسیل یا دستاویزات کی ہینڈلنگ
0.13 فیصد کم از کم - 150 روپے فی ٹرانزیکشن	(viii)	سروں چارجز برائے درآمدی ٹرانزیکشن یعنی PAD / کنٹریٹ کی ادائیگی اور / یا ان سہولیات کے تحت ڈاکومنٹس کی ہینڈلنگ۔
اصل رقم	(ix)	ری امبرسنگ بینک کو خدمات کے معاوضے کی ادائیگی
1000/- روپیہ اور غیر ملکی بینک / ایجنسی چارجز اور سوئفٹ چارجز	(x)	غیر ملکی سپلائرز کی کریڈیٹ رپورٹ کا حصول
100/- امریکی ڈالر فلیٹ (پریزنٹنگ بینک یا درخواست گزار سے لیے جائیں) + سوئفٹ چارجز	(xi)	ڈسکریٹنری فیس اگر فرق والی دستاویزات پیش کی گئی تو
حصہ ب - برآمدات		
2,000/- روپے اپنے کسٹمر سے - 2,500/- نوں کسٹمر سے - 150/- امریکی ڈالر مستفیض سے + سوئفٹ یا کوریئر چارجز جس کا اطلاق ہو۔ 1,250/- روپے فلیٹ سندھ بینک کے کسٹمر سے + کوریئر / سوئفٹ چارجز 2,000/- فلیٹ نوں کسٹمر سے + کوریئر / سوئفٹ چارجز انفرادی بنیاد پر فیس کے تعین کیلئے فنانشل انشٹیٹیوٹس ڈپارٹمنٹ کو بھیجا جائیگا 3,000/- روپیہ فلیٹ + سوئفٹ چارجز 0.20% فلیٹ کم از کم - 500 روپے یا گوی ایشن شرائط اور مجاز اتھارٹی کی منظوری کے مطابق۔	(i)	ایئر ز آف کریڈٹ ایل سی ایل سی میں ترمیم کنفرمیشن قابل انتقال ایل سی جو کہ اصل ایل سی کی جگہ جاری کی گئی ہو۔ گوی ایشن بل آف روپے برائے درآمدی ایل سیز
500/- روپیہ (فلیٹ) برائے ہینڈلنگ چارجز اوڈی بانٹنگ ریٹ، ڈی اے بلز کے تناسب سے ریٹ لئے جائیں گے۔ اگر 12 دن میں وصولی نہیں ہوئی تو 45 پیسے فی یوم فی - 1,000 روپیہ 12 دن سے زائد دنوں پر لئے جائیں گے۔ (الف) فارم کی چھان بین اور تصدیق - 1000 روپیہ (ب) E/EE فارم کی تصدیق کے بعد دوسرے بینک کیلئے NOC کے چارجز - 1000 روپیہ	(ii) (iii) (iv)	اگر پابند ایل سی کے تحت دستاویزات دیگر بینکوں کو گوی ایشن کیلئے بھیجے گئے ہوں۔ سائٹ، ڈی اے ایل سی کے تحت فارن کرنسی بلز کی گوی ایشن ری فنانس برائے برآمدات

بین الاقوامی بینکاری

	(v)	کلکیشنز	
الف	کلین / چیکس	150/- روپیہ فی کلکیشن + کوریئر چارجز اور سوئفٹ چارجز۔	
ب	دستاویزی کلکیشن ہینڈلنگ چارجز	0.13 فیصد کم از کم - 650/- روپے یا متعلقہ اتھارٹی کی منظوری کے مطابق + سوئفٹ چارجز۔	
ج	سروس چارجز برائے برآمدی دستاویزات کلکیشن / بینکی ادائیگی کی بنیاد پر۔	0.13 فیصد کم از کم - 1,000/- روپیہ فی کلکیشن	
(vi)	ڈیوٹی ڈرائیو ایکسچینج کی ہینڈلنگ	25 پیسے فی صد کم از کم - 1,000/- روپیہ فی کلیم	
(vii)	رسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سپورٹ کے دعووں کی اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہینڈلنگ	25 پیسے فی صد کم از کم - 1,000/- روپیہ فی کلیم	
(viii)	ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرجارج کی کلکیشن	80/- روپے فی ٹرانزیکشن ایکسپورٹ سے وصول کیا جائیگا۔	
	زائد المعیاری ایکسپورٹ ری فنانس / ایف اے ایف بی / ایف اے پی سی اپنے ذرائع / ایف ڈی بی پی / آئی ڈی بی پی / ایف ای - 25 وغیرہ۔	الف) 22 فیصد مارک اپ مکمل ادائیگی تک یا مجاز اتھارٹی کی خصوصی منظوری کے مطابق۔ ب) مارک اپ @ 100/- روپیہ سالانہ برائے غیر ملکی کرنسی (ایف ای - 25) اکاؤنٹ مقررہ تاریخ سے مکمل ادائیگی تک۔	
(ix)	ہینڈلنگ اور خدماتی معاوضہ (برائے ایکسچینج آمدنی کے متبادل اگر برآمدی وصولیات دوسرے بینک میں منتقل ہوں)	1,000/- روپے + سوئفٹ معاوضہ	
	حصہ 'ج' ترسیلات		
(i)	بیرونی		
الف	ترسیلات کا پاک روپیہ کے ذریعہ اجراء	0.13 فیصد کم از کم - 500/- روپیہ + سوئفٹ چارجز	
ب	ترسیلات کے سروس چارجز	13 پیسے فی 100 روپے	
ج	TT/DD فارن کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعہ بیرونی ملک ترسیل	1 امریکی ڈالر فی - 1,000/- امریکی ڈالر یا اس کا حصہ کم از کم - 10 امریکی ڈالر زیادہ سے زیادہ - 25 امریکی ڈالر یا دوسری فارن کرنسی میں اسکے برابر اور TT کیلئے سوئفٹ چارجز - 10 امریکی ڈالر	
(i)	غیر ملکی فارن کرنسی اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے کے 10 یوم میں ترسیلات یا کیش رقم نکالنا۔	(i) 0.25 فیصد فلیٹ کراچی کی برانچز کے لئے۔ (ii) 0.50 فیصد فلیٹ کراچی کے علاوہ برانچز کے لئے۔ (کم از کم - 10 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی دوسری کرنسی میں)۔ اگر جمع شدہ غیر ملکی کرنسی کیش کی صورت میں نکالی جائے گی تو ان چارجز کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اہم:- ایکسچینج کمپنی اپنے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں یومیہ 10,000/- امریکی ڈالر یا اس کے مساوی سے زیادہ جمع نہیں کر سکتی۔	
ہ	ایکسچینج کمپنیز کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں یورو، پاؤنڈ اسٹرلنگ اور یو اے ای درہم جمع کرانا	(i) اندرون ملک برانچوں کیلئے 0.50 فیصد کم از کم - 200/- روپے (ii) کراچی برانچوں کیلئے 0.25 فیصد کم از کم - 200/- روپیہ	

بین الاقوامی بینکاری

و	چھوٹی مالیت کے فارن کرنسی نوٹ جمع کرانا (اگر برطانوی پاؤنڈ 20 یا امریکی ڈالر 50 سے کم یا اس کے مساوی کوئی اور بیرونی کرنسی ہو۔)	1 فیصد ہیڈنگ چارجز (کم از کم ایک پاؤنڈ یا ایک امریکی ڈالر یا مساوی رقم جتنی کہ صورت حال ہو۔)
ز	خدائی معاوضہ دوسری بیرونی ترسیلات پر جہاں اسٹیٹ بینک کی منظوری درکار ہو۔	1,500/- روپے + سوئفٹ معاوضہ
(ii)	اندرونی	
الف	فارن کرنسی ترسیلات	کچھ نہیں اگر رقم ہمارے پاس اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہو۔ 200/- روپیہ فلیٹ اگر کسی اور بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو تو
ب	انڈین بینکنگ کمیشن	0.13 فی صدی چارجز کم از کم -200 روپیہ
(iii)	کلین انسٹرومنٹس یعنی ٹریلرز چیک، بینک ڈرافٹ وغیرہ کی خریداری	300/- روپیہ ہیڈنگ چارجز جس پر اوڈی بینک ریٹ کا اطلاق ہوگا۔ اگر پروسیڈر 12 یوم کے اندر نہ وصول ہوں 45 پیسے فی یوم فی -1000 روپیہ کے حساب سے 12 یوم سے زائد تاخیری مدت کیلئے وصول کیا جائیگا۔
حصہ د	متفرق چارجز	
(i)	ایسی صورت میں جب درآمد کنندہ ایل سی کھولنے یا ہمارے پاس کنٹریکٹ رجسٹر کرانے کیلئے کسی اور بینک سے زرمبادلہ خریدے تو آپ کی کمپنی کی آمدنی کے بدلے ہیڈنگ چارجز لاگو ہونگے۔	0.50 فیصد کم از کم -1,000 روپیہ
(ii)	نمائندہ بینک کے چارجز	اصل رقم / جو بھی لاگو ہوں
(iii)	ڈاک / کوریئر / سوئفٹ چارجز	
الف	اندرون ملک ڈاک خرچ بیرون ملک ڈاک خرچ (عام) بیرون ملک ڈاک خرچ (رجسٹرڈ)	کم از کم -75 روپیہ یا اصل رقم کم از کم -200 روپیہ یا اصل رقم کم از کم -250 روپیہ یا اصل رقم
ب	اندرون ملک کوریئر بیرون ملک کوریئر	کم از کم -250 روپیہ یا اصل رقم کم از کم -5,000 روپیہ یا اصل رقم درج بالا حد میں۔
ج	سوئفٹ چارجز مختصر سوئفٹ مکمل سوئفٹ	1,000/- روپیہ فی صفحہ 1,200/- روپیہ مختصر پیغام کیلئے 2,000/- روپیہ برائے مکمل متن ایل سینر / ایل جی، وغیرہ
(iv)	اندرونی کلیمیشن (بشمول فارن کرنسی اکاؤنٹ) جہاں رقم بیرون ملک یا مقامی بینک کے ذریعہ وصول ہوئی ہو اور رقم زرمبادلہ میں درکار ہو	11 امریکی ڈالر فی -1,000 امریکی ڈالر یا اس کا حصہ کم از کم -3 امریکی ڈالر زیادہ سے زیادہ -6 امریکی ڈالر

بین الاقوامی بینکاری

(v)	اندرونی کلکیشن چیکس جو اندرون ملک یا بینکوں سے پاک روپیہ میں ادائیگی کیلئے وصول ہوئے ہوں (متعلقہ فارن کرنسی کا تبادلہ پاکستانی روپے میں ٹی بی ایچ ریٹ سے ہوگا)	0.15 فیصد کلکیشن
(vi)	بلا واسطہ ایکسپو رٹر کے کام کرنے کا معاوضہ	1,000/- روپیہ فی لین دین
(vii)	کلکیشنز:	
الف	پاکستانی روپے کے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کیلئے	سروس چارجز 0.10 فی صد کم از کم - 100 روپیہ فی کلکیشن
ب	فارن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرنے کیلئے	(i) 2/- امریکی ڈالر یا مساوی رقم فی دستاویز۔ (ii) ٹریڈرز چیکس کیلئے - 2/- امریکی ڈالر فی کلکیشن۔ (iii) امریکی ڈالر کلکیشن سروس کے ذریعہ کلکیشن اور چیک واپسی چارجز - 300 روپے فی دستاویز۔
ج	فارن بلوں کی کلکیشن: بنا ادائیگی واپسی	250/- روپیہ اور کوریئر چارجز، دیگر چارجز اصل کی بنیاد پر
(viii)	فارن کرنسی اکاؤنٹ میں مستقل ہدایات پر عمل درآمد	1/- امریکی ڈالر فی ٹرانزیکشن
(ix)	ایک سال سے زائد مدت کے بعد پروسیجرز سرٹیفکیٹ کا اجراء	300/- روپیہ فی سرٹیفکیٹ
(x)	فریٹ سبیڈی کی درخواست داخل کرنا	0.10 فیصد فی درخواست کم از کم 300 روپیہ
(xi)	ریپیٹ کلیم کیلئے رینیلایزیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء	100/- روپیہ فی سرٹیفکیٹ (ضمیمہ اے یا بی)
(xii)	فارن کرنسی اکاؤنٹ میں چیک کی اسٹاپ ہیمینٹ	2/- امریکی ڈالر یا مساوی رقم
(xiii)	کسی اور قسم کا خرچ جو درج بالا جدول میں تحریر نہ ہو	اصل اخراجات

اندرون ملک بینکاری

حصہ الف	ترسیلات
(i) الف	پے آرڈرز کا اجراء: برائے سندھ بینک کھاتے داران
	100/- روپے رواں کھاتے داران جن کا اوسط بیلنس 2 لاکھ روپے یا زائد ہو یا بچت کھاتے داران جن کا اوسط بیلنس 5 لاکھ روپے یا زائد ہو (طبع شدہ ریٹ پر): مفت (ایک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 10 پے آرڈرز بن سکتے ہیں)
	غیر کھاتے داروں کیلئے (100,000/- روپیہ تک) واک ان کسٹمرز کو - 100,000/- روپیہ سے زائد مالیت کا PO جاری نہیں کیا جاسکتا۔
	تعلیمی اداروں، ہائر ایجوکیشن کمیشن، بورڈ وغیرہ کیلئے PO برائے فیس / واجبات (SBP) کا پی پی آر ڈی سرکلر 21 مورہ 10/08/2009
	پے آرڈرز کی منسوخی

اندرون ملک بینکاری

اگر رقم -/10.000 روپے یا اس سے کم ہو: -/100 روپے اگر رقم -/10.000 روپے سے زیادہ ہو: مفت	CDR کا اجراء	ب	
-/300 روپیہ فی دستاویز	ڈپلیٹ TDR / CDR / PO کا اجراء	ج	
کارروائی کے اوقات چار بجے کی کارروائی صبح 9:00 بجے سے سہ پہر 4 بجے تک صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 تک دوپہر 1:30 سے سہ پہر 3:00 بجے تک سہ پہر 3 بجے سے سہ پہر 4 بجے تک مبلغ -/50 روپے مبلغ -/220 روپے مبلغ -/330 روپے مبلغ -/550 روپے	کسٹمر کی درخواست پر RTGS منتقلی کی رقم کی مالیت پیر تا جمعہ مبلغ ایک لاکھ روپے سے مبلغ 999.999 روپے تک (MT-102) پیر تا جمعہ مبلغ 10 لاکھ روپے یا زائد (MT-103)	(ii)	الف) ب)
کوئی چارجز نہیں کوئی چارجز نہیں کوئی چارجز نہیں	آن لائن کیش / چیک ٹرانسفر اندرون شہر آن لائن ٹرانسفر بیرون شہر آن لائن ٹرانسفر آن لائن کیش ڈپازٹ	(iii)	
-/300 روپے جاری کھاتے داروں کیلئے -/500 روپے دیگر کھاتے داروں کیلئے -/300 روپے	اسی دن بیرونی کلیئرنگ اسی دن کلیئرنگ چیک کی واپسی	(iv)	
	اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ	حصہ ب	
0.40 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ کم از کم -/1,000 روپیہ پہلی سہ ماہی کیلئے اس کے بعد ہر سہ ماہی یا اس کے جزو پر 0.20 فی صد	ایل سی کھولنے کا کمیشن	الف	
-/1,000 روپیہ فلیٹ یا وہ کمیشن جو اوپر الف پر درج ہے (اگر ترمیم کا تعلق رقم یا مدت کے بڑھانے سے ہو۔)	ترمیم	ب	
فلیٹ -/700 روپے	ایڈوائزنگ	ج	
فلیٹ -/500 روپے	ترمیم کی ایڈوائزنگ	د	
نوٹ: (i) الف) اور ب) پر درج شدہ کمیشن میں مجاز اتھارٹی کی اجازت سے ترمیم کی جاسکتی ہے جسکی بنیاد سالانہ حجم / قدر اور کسٹمر کے ساتھ طے شدہ شرائط پر ہوگی۔ (ii) ایسی صورت میں جب کمیشن مستفیض کے ذمہ ہوگا تو وہ ایل سی کھولنے والے درخواست گزار سے ایل سی کھولتے وقت وصول کیا جائے گا۔ رقم اور ایل سی کھولنے کے کمیشن کی وصولی کے بعد ایل سی کا کمیشن درخواست کنندہ کے اکاؤنٹ میں واپس جمع کر دیا جائے گا۔			
	بلز:		
	کلکیشنز (وصولیات)	(i)	
0.35 فی صد کم از کم -/200 روپیہ + ڈاک / کورر کے اخراجات	دستاویزی	الف	

اندرون ملک بینکاری

ب	کلین / OBC / نفٹ کے ذریعے دوسرے شہر سے کلیئرنگ (دیگر بینکوں کی شاخوں سے براہ راست)	فلیٹ - 250/- روپے + کوریئر چارجز اصل اخراجات جہاں اطلاق ہو۔
ج	فاری کٹ کھاتے کی کلیئرنگ FC کلیئرنگ چیک کی واپسی	400/- روپے 400/- روپے
(ii)	بلز اور چیکوں کی خریداری	
الف	دستاویزی بل ماسوائی بلوں کے جوابیل سی کے تحت ہوں اور کلین بل / ٹریڈ چیکس	وہی چارجز جو کمیشن کیلئے ہیں جیسا کہ (i)، الف اور ب پر تحریر ہے + پرچیز کی تاریخ سے ادائیگی کی تاریخ تک مارک اپ اور ڈاک / کوریئر کا خرچ جو بھی دونوں پارٹیوں کے درمیان طے پایا ہو وصول کیا جائے۔
ب	دیگر چیکس اور ڈیمانڈ انسٹرومنٹس (ڈیویڈنڈ وارنٹ وغیرہ)	0.40 فی صد کم از کم - 15/- روپیہ + ڈاک خرچ / کوریئر چارجز
نوٹ: اگر کلیئرنگ بینک سندھ بینک کے علاوہ کوئی اور بینک ہے تو کمیشن ایجنٹ کے چارجز اضافی ہوں گے۔		
ج	بل پرچیز پر درج ذیل شرح سے مارک اپ چارج ہوگا	
(i)	اگر خریداری کی تاریخ سے 21 یوم کے اندر ریٹائر ہوں	40 پیسے فی - 1,000/- روپیہ فی یوم
(ii)	اگر 21 دن بعد ریٹائر ہوں	45 پیسے فی - 1,000/- روپیہ فی یوم
(iii)	اگر 35 دن بعد ریٹائر ہوں	55 پیسے فی - 1,000/- روپیہ فی یوم
د	اسٹوریج چارجز 3 دن کے بعد:	(i) کچھ نہیں اگر 3 دن کے اندر کلیئر ہو جائے۔ (ii) 50/- روپیہ فی ٹیکٹ فی یوم کم از کم - 100/- روپیہ
(iii)	ریٹرنک (واپسی کے) چارجز ڈاکومنٹری اور کلین کمیشن میں اگر انسٹرومنٹ بغیر ادائیگی واپس ہو گیا ہو۔	ڈاکومنٹری - 100/- روپیہ + ڈاک / کوریئر کے اخراجات کلین - 100/- روپیہ + ڈاک / کوریئر کے اخراجات
(iv)	ڈاکومنٹری بلز جو اندرون ملک ایل سی کیلئے ہوں	
1	درشنی بلز یا سائٹ بلز	
(i)	ٹیکو ایٹن کے مقام پر	
الف	ٹیکو ایٹن کمیشن	منظوری ایڈوائس کے مطابق یا 0.43% فلیٹ کم از کم - 500/- روپے + کوریئر چارجز اگر رقم 12 دن کے اندر وصول نہ ہو تو اور ڈیو مارک اپ @ 55 پیسہ فی یوم فی - 1,000/- روپے برائے تاخیر 12 یوم وصول کیا جائے گا۔ بشرطیکہ سہولیات میں ایف آئی ڈی شامل ہے۔ فلیٹ - 450/- روپیہ فی بل
ب	کمیشن چارجز برائے پابند ایل سی (جہاں ٹیکو ایٹن کو کسی اور بینک تک محدود کر دیا گیا ہو اور فارورڈنگ کیلئے سندھ بینک کو دیا گیا ہو)	
(ii)	اوپننگ کے مقام پر (ریٹائرمنٹ کے وقت) مارک اپ کی شرح	
الف	اگر تاریخ لو جھنٹ کے تین دن کے اندر ریٹائر کر لیا گیا	مارک اپ بحساب 45 پیسے فی - 1000/- روپیہ فی یوم ٹیکو ایٹن کی تاریخ سے یا منظوری درخواست کے مطابق
ب	اگر تاریخ لو جھنٹ کے تین دن بعد ٹیکو ایٹن کی تاریخ سے 20 یوم کے اندر ریٹائر کر لیا گیا ہو	مارک اپ بحساب 50 پیسے فی - 1000/- روپیہ فی یوم یا منظوری درخواست کے مطابق
ج	اگر ٹیکو ایٹن کی تاریخ کے 20 یوم بعد ریٹائر کر لیا گیا ہو	مارک اپ بحساب 55 پیسے فی - 1000/- روپیہ فی یوم یا منظوری درخواست کے مطابق

اندرون ملک بینکاری

		یونٹس بلز	2
		نیگویی ایشن کے مقام پر	(i)
		نیگویی ایشن کمیشن	الف
		خرید کی صورت میں	ب
		0.35 فیصد، کم از کم -/500 روپیہ	
		عمومی کمیشن جیسا کہ اوپر (الف) پر درج ہے اور 45 پیسے	
		فی -/1,000 روپیہ نی پیم تاریخ خرید سے ادائیگی کی وصولی کی تاریخ تک	
حصہ 'ج' قرضہ جات			
(i) قانونی مشورہ		(i) درون خانہ	
		الف -/3,000 روپیہ جائیداد کی دستاویزات کا جائزہ ایک ملین روپے تک کے قرض پر۔	
		ب -/5,000 روپیہ ایک ملین روپے سے زیادہ 10 ملین روپے تک کے قرض پر۔	
		ج -/10,000 روپیہ 10 ملین روپے سے زائد کے قرض پر۔	
		(ii) کسی بیرونی وکیل سے اگر جائزہ کروایا جائے : اصل اخراجات	
(ii) قانونی وثیقہ جات		اصل اخراجات اور اس سلسلے میں کوئی ضمنی اخراجات	
(iii)		چارجرز برائے پروجیکٹ فنانسنگ / طویل المدت قرضے وغیرہ درخواست / پروجیکٹ ایپریزل فیس کنٹنٹ فیس قانونی کاغذات کی فیس پروجیکٹ بائیئرنگ فیس ٹرنٹی شپ فیس حصہ لینے کی فیس ایڈوائزری فیس	الف) ب) ج) د) و) ه) ک)
		الف) قابل تبدیلی درخواست / پروجیکٹ کے مطابق باہمی رضامندی سے طے کیا جائے گا۔ ب) منظوری ایڈوائس کے مطابق یا غیر جاری کردہ رقم کا 0.5 فیصد فی سہ ماہی یا جیسا کہ منظور کیا گیا ہو۔ ج) اصل اخراجات۔ د، و، ہ، ک صارف سے طے کردہ شرائط کے مطابق۔ کنٹور شیم / سینڈیکٹ قرضے کی صورت میں متفقہ طور پر طے شدہ شرائط کے مطابق۔	
(iv) الف)		تجربیدی / بے قرضے / لمٹ میں اضافے کی درخواست پر پروسیدنگ فیس: (برائے ایس ایم ای، کمرشل، کارپوریٹ قرضہ جات) 2 ملین روپے تک 2 ملین روپے سے زیادہ اور 10 ملین روپے تک 10 ملین روپے سے زیادہ اور 25 ملین روپے تک 25 ملین روپے سے زیادہ اور 50 ملین روپے تک 50 ملین روپے سے زیادہ کی سہولیات پر 50 ملین روپے سے زیادہ کی سہولیات جو کہ سندھ بینک کے بلا سوڈڈ پاؤٹ کی ضمانت پر ہوں۔ جو سہولیات سندھ بینک کے ریک ریٹ پر رکھے گئے ڈپازٹ کی ضمانت پر ہوں۔ درمیانی مدت میں سہولت میں اضافہ درمیانی مدت کی توسیع / لمٹ کی مقررہ مدت کے دوران اضافہ لمٹ سے تجاوز سنگل ٹرانزیکشن عارضی توسیع	
		-/2,500 روپے -/5,000 روپے -/10,000 روپے -/15,000 روپے 0.02 فیصد، کم از کم -/25,000 روپے کچھ نہیں -/2,000 روپے فلیٹ اوپر دیے گئے چارجرز کے مطابق صرف اضافی رقم پر -/5,000 روپے فلیٹ %0.10 اضافی رقم پر، کم از کم -/1,000 روپے۔ -/5,000 روپے فلیٹ -/3,000 روپے فلیٹ	

اندرون ملک بینکاری

	(ب)	کئمنٹ فیس برائے طے شدہ شرائط کی خلاف ورزی نوٹ: ۱۔ آفریڈ کی قبولی اور ڈی اے سی کے اجراء سے پہلے چارجز وصول کر لئے جائیں گے۔ ۲۔ یہ چارجز مجاز اتھارٹی کی منظوری سے دیئے گئے برنس کے مطابق یا مجموعی کارکردگی کے مطابق قابل معافی یا قابل تبدیلی ہیں۔ ۳۔ طویل مدت فنڈ سہولیات اور غیر معیادی ضمانتوں کے درمیانی مدت یا سالانہ تجزیے پر کوئی چارج نہیں ہیں۔	کسٹمر سے طے شدہ شرائط کے مطابق۔
		نوٹ: کاروائی فیس یا دوسرے چارجز میں مجاز اتھارٹی کی / کریڈٹ کمیٹی کی اجازت سے رد و بدل ہو سکتا ہے۔	
	(v)	زرعی قرضہ جات: تمام رقم کیلئے ایک مرتبہ کاروائی فیس اگر قرض کی رقم 5 لاکھ روپے یا اس سے کم ہو : -/500 روپے اگر قرض کی رقم 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہو : 0.10%	
	(vi)	بینک کے کنٹرول یا حق ملکیت پر قرضوں کیلئے مختلف چارجز جو عائد ہو سکتے ہیں	
	الف	بینک کے کنٹرول شدہ مال کیلئے ڈیلیوری آرڈر	-/500 روپیہ فی ڈیلیوری
	ب	گودام کا کرایہ	اصل رقم جو مقدم کو ادا کی جائے
	ج	پلیج شدہ حصص کی نقل و حرکت	-/500 روپیہ فی ٹرانزیکشن + CDC کے اصل چارجز
	د	گودام کے عملہ کی تنخواہ / مقدمہ کی تنخواہ	اصل اخراجات
	ه	گودام / اسٹاک کی جانچ پڑتال کے چارجز	الف) -/1,000 روپے اگر قرض کی رقم -/5,000,000 روپے تک ہو ب) -/2,000 روپے برائے -/5,000,000 روپے سے زائد لیکن -/10,000,000 روپے تک کی سہولت ج) -/5,000 روپے برائے -/10,000,000 روپے سے زائد لیکن -/100,000,000 روپے تک کی سہولت + دیگر اصل اخراجات د) -/100,000,000 روپے سے زائد سہولت کیلئے -/10,000 روپے + دیگر اصل اخراجات
	و	جہاز برائے اسکرپ کا معائنہ / اسکرپ کے اسٹاک کا معائنہ	جیسا کہ اوپر تحریر ہے
	ز	دیگر اتفاقی یا ضمنی اخراجات انشورنس کا پیمائش، قانونی اخراجات وغیرہ	اصل اخراجات
	ژ	بحالت مجبوری FIM دینے پر کمیشن بحالت مجبوری FIM کا مارک اپ	0.50 فیصد کم از کم 500 روپے قرض کی منظوری کے مطابق یا 55 پیسے فی -/1,000 روپے یومیہ پہلے دن سے مکمل وصولی تک۔

اندرون ملک بینکاری

ح	کسٹمر کی درخواست پر این او سی جاری کرنا / کسٹمر کے اثاثوں پر دوسرے بینکوں / مالیاتی اداروں سے مزید قرض حاصل کرنے کیلئے اضافی / پاری پاسو چارج / ثانوی چارج دینے کیلئے چارجز	فلیٹ -/10.000 روپیہ
vii	ایکسپورٹ ری فنانس کی درخواست کی ہینڈلنگ	-/500 روپیہ فی درخواست
viii	اسٹیٹ بینک اسکیم کے تحت طویل المیعاد سہولت کی درخواست کے انتظام کی فیس معمول کی فیس سے اضافی ہوگی	-/1000 روپیہ فی کیس
	نوٹ: متفرق اخراجات اصل کی بنیاد پر وصول کئے جائیں جو بینک کیلئے منافع کا ذریعہ نہ ہوں۔	
حصہ د:	قرضہ جات برائے صارف	
(i)	قرضہ جات برائے مکان:	
الف	قرض کیلئے کاروائی کی فیس	-/8,000 روپے: تنخواہ دار / خود ملازم افراد سے۔ -/10,000 روپے: دیگر افراد سے۔
ب	قانونی دستاویزات کی تیاری / تعین قیمت / آمدنی کا تخمینہ کا معاوضہ	اصل اخراجات
ج	رقم میں اضافے کا معاوضہ	-/5,000 روپے۔
د	ادائیگی میں تاخیر کا معاوضہ	-/1,000 روپے یا ایک روپیہ فی ہزار روپے پیمید قسط کی رقم کا مقررہ تاریخ کے 7 یوم بعد ادائیگی تک، جو بھی زیادہ ہو۔ تاخیر یا ادائیگی کے چارجز مقررہ تاریخ سے لگائے جائیں گے۔
ه	چیک واپسی کا معاوضہ	فی چیک ایک ہزار روپے
و	قبل از وقت منسوخی کا معاوضہ	3 فیصد بھٹایا اصل رقم کا۔
ز	قرض کے دوران مدت اضافی ادائیگی	کم از کم 20% پیٹنگی ادائیگی بھٹایا رقم کی، زیادہ سے زیادہ سال میں دو دفعہ۔ (i) پہلی ادائیگی پر کوئی چارجز نہیں۔ (ii) ادا شدہ رقم کا 5% اگر دوسری پیٹنگی ادائیگی ہو۔
(ii)	ذاتی قرضہ جات / ایڈوانس سٹری لون / ریڈی لائن	
الف	کاروائی کی فیس بشمول ایف ای ڈی	تنخواہ دار افراد کیلئے: % 1.5، کم از کم -/2,500 روپے خود ساختہ ذریعہ معاش / کاروباری افراد کیلئے: % 1.5، کم از کم -/5,000 روپے
ب	تجدید قرض کا معاوضہ برائے ریڈی لائن	ریڈی لائن کیلئے 3 ہزار روپے سالانہ
ج	دستاویزات کی تیاری کا معاوضہ	اصل اخراجات
د	ادائیگی میں تاخیر کا معاوضہ	ایک روپیہ فی ایک ہزار روپے پیمید ہر تاخیری قسط کا (اصل رقم + مارک اپ) جب تک کے ادائیگی ہو جائے، کم از کم -/250 روپے۔

اندرون ملک بینکاری

۵ فیصد بشمول ایف ای ڈی اگر ۱۲ مہینوں کے اندر واپسی ہو۔ کچھ نہیں، اگر ۱۲ مہینوں کے بعد واپسی ہو۔	قبل از وقت ادائیگی کا جرمانہ	۵	
اضافی رقم کا ۳ فیصد۔ قرض کے دوران مدت زیادہ سے زیادہ دو دفعہ اضافی ادائیگی کی جاسکتی ہے۔ اضافی ادائیگی ۵ قسطوں کی رقم سے کم نہیں ہو سکتی۔	قرض کے دوران مدت اضافی ادائیگی	۵	
	گاڑی کیلئے قرضہ جات	(iii)	
۵ ہزار روپے (اگر ڈاؤن پیمنٹ مل چکی ہو تو ناقابل واپسی)	کاروائی کی فیس	الف	
اصل اخراجات	قانونی دستاویزات کی تیاری	ب	
اصل اخراجات	تعیین قیمت / آمدنی کے تخمینہ کا معاوضہ	ج	
اگر ایک سال کے اندر ہو: ادا کی جانے والی بھاری رقم کا ۵ فیصد ایک سال بعد: ادا کی جانے والی رقم کا ۳ فیصد	قبل از وقت منسوخی کا معاوضہ	د	
فی چیک ایک ہزار روپے	چیک واپسی کا معاوضہ	۵	
ایک ہزار روپے یا قسط کا ۸ فیصد ہر ماہ (جو زیادہ ہو)	ادائیگی میں تاخیر کا معاوضہ	و	
12,000/- روپے یا اصل اخراجات (ماہانہ قسط میں شامل ہوگا۔)	ٹریڈر کا معاوضہ	ز	
اصل اخراجات	قانونی چارہ جوئی کا معاوضہ (اگر کوئی ہو)	ژ	
اصل اخراجات	جامعہ بینہ کا معاوضہ	س	
اصل اخراجات زیادہ سے زیادہ -100,000/- روپے	گاڑی ضبطی کا معاوضہ	ش	
زیادہ سے زیادہ 500 روپے پومیہ + عائد شدہ ٹیکس	گودام کا معاوضہ	ص	
	مندرجہ بالا معاوضات میں مجاز اتھارٹی کی منظوری سے ترمیم کی جاسکتی ہے۔	اطلاع:	
	مستقل ہدایات کی فیس	حصہ-۵	
100/- روپے فی ٹرانزیکشن + ڈاک / کوریئر اخراجات	مستقل ہدایت کی فیس ترسیل زر کی فیس کے علاوہ، اضافی طور پر وصول کی جائیگی	(i)	
100/- روپے فی ٹرانزیکشن	اگر رقم کی منتقلی اس برانچ کے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ہو	(ii)	
	ان تہسکات کی خرید و فروخت جو سیف کسٹڈی یا سیف ڈپازٹ لاکر میں ہوں	حصہ-۶	
10 ہزار روپے کی قیمت خرید یا لاگت پر 0.15 فی صد کم از کم 100 روپے 10 ہزار روپے سے زائد رقم پر 0.10 فی صد کم از کم 100 روپے	شیر ذور تہسکات (Securities) کی خرید و فروخت	(i)	
	نوٹ:		
	(الف) درج بالا چارجز بروکریج چارجز کے علاوہ ہونگے۔ (ب) جہاں نئی متعارف سیکورٹیز پر کمیشن حکومت یا حکومتی اداروں اور نئے فلوئیشن کے آجر کو ادا کرنا ہوں وہاں کمیشن وصول نہیں کیا جائیگا۔ (ج) جب شیر ذور سیکورٹیز کی خرید و فروخت کے آرڈر کی تکمیل، بینک کے دیگر دفاتر سے کی گئی ہو تو تمام معنی اخراجات جیسے ڈاک خرچ، بینہ چارجز وغیرہ بروکریج چارجز کے ساتھ اضافی طور پر وصول کئے جائیں گے۔		

اندرون ملک بینکاری

10 ہزار روپے کی ادا شدہ یا ٹاہری مالیت پر 0.25 فی صد کم از کم - 50/- روپیہ 10000/- روپیہ سے زائد رقم پر 0.125 فی صد کم از کم - 100/- روپیہ	سیف کسٹڈی میں رکھے ہوئے شیر زاور سیکورٹیز نگوانے کی فیس (نگوانے کے وقت وصول کی جائیگی)	(ii)
10/- روپیہ فی اسکرپ	گورنمنٹ سیکورٹیز نگوانے کی فیس	(iii)
کم از کم 50 روپے	جب فروخت شدہ شیر زاور سیکورٹیز سیف کسٹڈی میں سے ہوں چاہے شیر زاور سیکورٹیز کی فروخت پر کمیشن آئٹم کے مطابق ہو یا نگوانے کی فیس آئٹم (ii) اور (iii) کے مطابق ہو تو جو زیادہ ہوگا صرف وہی وصول کیا جائیگا۔	
500/- روپیہ پنڈلنگ چارجز فی فروخت فی کسٹر	گورنمنٹ سیکورٹیز جیسے ایس ایس ای ڈی ایس سی کی فروخت	iv الف
500/- روپیہ پنڈلنگ چارجز فی فروخت فی کسٹر	گورنمنٹ سیکورٹیز کے منافع کو پن کیش کرانا	ب
فی 100 کیوبک انچ یا اس کا حصہ پر 5 روپے تک فی سہ ماہی 400 روپے تک فی 25 مربع انچ 5 روپے تک فی سہ ماہی 350 روپے تک	محفوظ تحویل اشیاء (محفوظ تحویل میں دی گئی اشیاء کیلئے معاوضہ اشیاء رکھواتے ہوئے یا ہر سہ ماہی کے آغاز پر پیشگی وصول کیا جائے گا) (i) بکس یا باندھی ہوئی اشیاء (پارسل) کم از کم معاوضہ (ii) لفافے کم از کم معاوضہ	ج
سیف ڈپازٹ لاکر فیس (پیشگی وصول کی جائیگی)	الف	v
قابل واپسی ڈپازٹ کے عوض کوئی کرایہ نہیں ہوگا 20,000/- روپیہ 30,000/- روپیہ 50,000/- روپیہ یہ رقم کسٹمر کے ڈپازٹ کھاتے میں جمع ہوگی مساوی طور پر سالانہ کرائے کا 10% مفت	سالانہ کرایہ (1) چھوٹا لاکر - 1,500/- روپیہ سالانہ (2) درمیانہ لاکر - 2,000/- روپیہ سالانہ (3) بڑا لاکر - 3,000/- روپیہ سالانہ جرمانہ (اگر سالانہ کرایہ ایک مہینے کی تاخیر سے جمع کرایا جائے) بیمہ کا تحفظ	
2,000/- روپیہ فی لاکر	کی (Key) ڈپازٹ (پیشگی وصولی - اختتام پر قابل واپسی)	ب
5,000/- روپیہ فی لاکر یا اصل رقم (جو بھی زیادہ ہو)	لاکروڑنے کے چارجز	ج
حصہ - ز ضمانتیں		
1,200/- روپیہ فلیٹ	شپنگ ضمانت جو کہ شپنگ یا ہوائی کمپنی کو بل آف لیڈنگ یا تصدیق شدہ انیروے بل، وغیرہ کے عوض دی جائے۔	(i)
0.40 فی صد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ کم از کم - 1,000/- روپیہ	تمام ضمانتیں (اجراء تجرید اور توسیع)	(ii)
0.40 فی صد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ کم از کم - 1,000/- روپیہ + نمائندہ بینک کے اخراجات اور مکمل سوئفٹ چارجز یا حجاز اتھارٹی کی خصوصی منظوری کے مطابق - 750/- روپے فی ترمیم	ضمانتیں جن کے مستفیض پاکستان سے باہر ہوں۔ ترمیم جب متن میں ترمیم کی جائے جبکہ رقم اور مدت وہی رہیں۔	(iii) الف
معاہدے کے مطابق	کنسورشیم ضمانتیں	(iv)

اندرون ملک بینکاری

1,000/- روپیہ ضمانت کی رقم کچھ بھی ہو۔ کچھ نہیں۔ 0.20 فی صد فی سہ ماہی سہولت کی منظوری کے مطابق۔ اگر کسی ضمانت کے تحت موصول شدہ کلیم بینک کو ادا کرنا پڑے تو یہ نادر ہندہ تصور ہوگی اور یہ بحالت مجبوری قرض ہوگا جس پر بارک اپ 60 پیسہ فی 1,000/- روپے یوئیر قرض خواہ کو قرضے کی مکمل ادائیگی تک ادا کرنا ہوگا۔	وہ ضمانتیں جو پاکستان میں جاری کی گئی ہوں بھوض 100 فیصد کیش مارجن (غیر منافع بخش اکاؤنٹ) علحدہ ضمانت اکاؤنٹ میں رکھے گئے 100 فیصد کیش مارجن کی صورت میں۔ جو ضمانتیں 100 فیصد بینک میں رکھے گئے ڈپازٹ (جو کہ طبع شدہ ہوں) کے رہن کی بنیاد پر جاری ہوں۔ جو ضمانتیں 100 فیصد سندھ بینک میں رکھے گئے ڈپازٹ (جو کہ اسٹیٹل ریٹ پر ہوں) کے رہن کی بنیاد پر جاری ہوں۔ ضمانتوں کے تحت بحالت مجبوری قرض۔	(v)
1,000/- روپے	اسٹیٹ بینک کی منظوری سے جاری کی جانے والی ضمانتیں	(vi)
اصل رقم	اسٹیٹ ڈپوٹی	(vii)
1,000/- روپے فی ضمانت	بینک ضمانت کی قانونی توثیق	(viii)
1,000/- روپے فی ضمانت	ضمانت کا دوبارہ / ڈپلیکیٹ اجراء	(ix)
1,000/- روپے + سوئفٹ چارجز	دوسرے بینک کو ضمانت کی سپردگی	(x)
نوٹ: (الف) بینک جو بھی ضمانتیں جاری کریگا اس میں رقم، میعاد کی تاریخ اور وہ تاریخ جب تک مطالبات پیش کئے جاسکتے ہیں، کا صریح ذکر ہونا چاہیے۔ کمیشن مطالبات پیش کرنے کی مدت کو شامل کر کے وصول ہوگا۔ (ب) بیرون ملک نمائندہ بینک / بینک کی ضمانت کی بنیاد پر ضمانت جاری کرنے کیلئے کاروباری حجم کے مطابق کمیشن کی شرح مختلف ہو سکتی ہے۔ (ج) ضمانتوں پر کمیشن ضمانت کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی وصول کیا جاتا رہے گا جب تک ضمانت کی اصل دستاویز بینک کو لوٹا نہ دی گئی ہو یا سبکدوش نہ کرائی گئی ہو۔ (د) ایک سال کیلئے جاری کردہ ضمانتوں کا پورا کمیشن ضمانت کے اجراء کے وقت ہی وصول کر لیا جائے گا۔ (ه) ایک سال سے زیادہ مدت کی جاری کردہ ضمانتوں کا پوری مدت کا کمیشن اجراء کے وقت وصول کیا جائے گا۔ البتہ اگر کسٹمر قابل قدر ہو اور وہ پوری مدت کا کمیشن دینے پر رضی نہ ہو تو پہلے سال کا کمیشن پیشگی وصول کیا جائے گا اور اگلے پورے سال یا اس سے کم عرصہ کا بقیہ کمیشن پہلے سال کے اختتام پر وصول کیا جائے گا۔		

اندرون ملک بینکاری

حصہ - ح متبادل ذرائع بینکاری						
الف)						
ویزا اگلاسک کارڈ	ویزا گولڈ کارڈ	ویزا پلاٹینم کارڈ	ویزا کارڈ برائے ملازمین	یونین بے کارڈ برائے کھاتے داران	یونین بے کارڈ برائے ملازمین	
فی ٹرانزیکشن چارجز:						
اے ٹی ایم سے رقم نکالنا / پی او ایس (بین الاقوامی)	4 فیصد کم از کم 400/- روپے	4 فیصد کم از کم 400/- روپے	4 فیصد کم از کم 400/- روپے	3 فیصد کم از کم 200/- روپے	4 فیصد کم از کم 400/- روپے	2.5 فیصد کم از کم 200/- روپے
بینکس کی معلومات (بین الاقوامی)	200/- روپے	200/- روپے	200/- روپے	50/- روپے	100/- روپے	50/- روپے
سالانہ فیس (وصولی کارڈ کے اجراء کے وقت اور سالانہ کی جائے گی)						
بنیادی کارڈ	1,000/- روپے	1,500/- روپے	2,400/- روپے	کلاسک : مفت دیگر : 50 فیصد	1,000/- روپے	مفت
سپلیمنٹری کارڈ	1,000/- روپے	1,500/- روپے	2,400/- روپے	50 فیصد	اطلاق نہیں ہوتا	اطلاق نہیں ہوتا
کارڈ کی تبدیلی	1,000/- روپے	1,500/- روپے	2,400/- روپے	50 فیصد	1,000/- روپے	مفت
کارڈ کے اجراء کیلئے ابتدائی بینکس کی شرط	1,000/- روپے	1,000/- روپے	1,000/- روپے	1,000/- روپے	500/- روپے	500/- روپے
اوسطاً اور کم از کم بینکس	1,000/- روپے	1,000/- روپے	1,000/- روپے	اطلاق نہیں ہوتا	اطلاق نہیں ہوتا	اطلاق نہیں ہوتا
روزانہ لین دین حد (24 گھنٹوں میں)						
کیش نکالنا	50,000/- روپے	75,000/- روپے	100,000/- روپے	ایضاً	50,000/- روپے	50,000/- روپے
پی او ایس	100,000/- روپے	200,000/- روپے	500,000/- روپے	ایضاً	100,000/- روپے	100,000/- روپے
IBFT	200,000/- روپے	300,000/- روپے	500,000/- روپے	ایضاً	200,000/- روپے	200,000/- روپے
لین دین کی درستگی / چارج بیک (اختلافی لین دین)						
اندرون ملک	کم از کم - 500/- روپے یا اصل رقم (جو بھی زیادہ ہو)					
بین الاقوامی	کم از کم - 20/- ڈالر یا اصل رقم (جو بھی زیادہ ہو)					
مصالحی چارج بیک	کم از کم - 500/- ڈالر یا اصل رقم (جو بھی زیادہ ہو)					
ب) بے پاک کلاسک کارڈ						
پے پاک گولڈ کارڈ						
(الف) روزانہ رقم نکالنے کی حد : - 50,000/- روپے						
(ب) پی او ایس سے روزانہ لین دین کی حد : - 100,000/- روپے						
(ج) بینکوں کے مابین رقم کی منتقلی : - 200,000/- روپے						
(د) سالانہ معاوضہ : - 500/- روپے						
(ه) ملازمین کے لئے کارڈ کا اجراء : مفت						
(ج) کوچ کارڈ: اجراء اور سالانہ معاوضہ : - 1,100/- روپے						

اندرون ملک بینکاری

(د) فنڈز انسفر بذریعہ ڈیبٹ کارڈ / ایس ایم ایس / آئی بی ایف ٹی کے تحت

- الف - FT کے تحت رقم کی منتقلی سندھ بینک کی کسی بھی شاخ میں ویزا / یونین پی کارڈ سے بذریعہ ایس ایم ایس / ATM : مفت
 ب - دیگر بینکوں کے درمیان رقم کی منتقلی ویزا / یونین پی کارڈ سے بذریعہ ایس ایم ایس / ATM - 25,000/- روپے فی مہینہ فی اکاؤنٹ تک مفت آئی بی ایف ٹی۔
 25,000/- روپے فی اکاؤنٹ سے زائد اضافی رقم کے لئے ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.1 فیصد یا 200/- روپے، جو بھی کم ہو، چارج کیا جائے گا۔

(ح) دیگر چارجز : معلوماتی ایس ایم ایس مکمل - 50/- روپیہ ماہانہ + فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی
 سوائپ مشین کے ذریعے رقم نکالنا : مفت

حصہ - ط	متفرق چارجز	
(i)	چیک بک کے اخراجات اگر رواں کھاتے میں - 300,000/- روپے یا بچت کھاتے میں - 1,000,000/- روپے (طبع شدہ ریٹ پر) کا ماہانہ اوسط بیلنس ہو تو	10/- روپے فی چیک ورث مفت (25 اوراق پر مشتمل ایک چیک بک ہر مہینے) اسکے علاوہ ہفتہ میں 10/- روپے آرڈر کا مفت اجراء
(ii)	الف اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کی نقل کی فراہمی	مساوی - 35/- روپیہ بمعہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی
ب	ایک سال سے زائد مدت کی ایڈوائس کی نقل	50/- روپیہ فی ایڈوائس
(iii)	چیک کی واپسی اکاؤنٹ میں ناکافی رقم کی وجہ سے	500/- روپے چیک لکھنے والے کے اکاؤنٹ سے وصول کیئے جائیں بشمول کیش، اندرونی کلیئرنگ اور ٹرانسفر
(iv)	چیک کی ادائیگی روکنا (اسٹاپ پیمنٹ)	نی چیک - 300/- روپے زیادہ سے زیادہ - 1,000/- روپے
(v)	ہولڈنگ میل کی ہدایات	1,000/- روپے سالانہ (صرف موجودہ ہولڈنگ میل کسٹمرز کیلئے)
(vi)	اندرون ملک کوریئر / ڈاک خرچ	
الف	ڈاک خرچ	75/- روپیہ کم از کم یا اصل اخراجات، جو زیادہ ہو
ب	کوریئر	100/- روپیہ کم از کم یا اصل اخراجات، جو زیادہ ہو
ج	ٹیلیفون	100/- روپے
(vii)	آڈیٹرز کو بیلنس کی تصدیق	500/- روپیہ فی تصدیق
(viii)	کسٹمر کی درخواست پر کسی بھی قسم کے سرٹیفکیٹ کا اجرا بشمول بیلنس / اکاؤنٹ رکھنے کے سرٹیفکیٹ	فی سرٹیفکیٹ - 250/- روپیہ (ماسوائے وہ ہولڈنگ ٹیکس کٹوتی سرٹیفکیٹ جو کہ مفت ہے۔)
(ix)	کسی قسم کا کوئی اور خرچ جس کا اندراج اس جدول میں نہ ہو۔	اصل اخراجات
(x)	ادا شدہ چیک کی فوٹوکاپی	50/- روپیہ فی چیک
(xi)	کریڈٹ رپورٹ کا اجرا	500/- روپیہ فی رپورٹ
(xii)	کیش کلکیشن کی خدمات	500/- روپیہ یا اصل اخراجات (جو زیادہ ہو) + سیکورٹی انتظام کا خرچ

اندرون ملک بینکاری

(xiii)	کارپوریٹ تنخواہوں کی ادائیگی	-/50 روپیہ فی ملازم کی تنخواہ یا جیسا طے پایا ہو یا گروپ بزنس ہیڈ کی منظوری سے۔
(xiv)	قومی پرائمری بونڈز کی انعامی رقم کی وصولی	انعامی رقم کا 1% (کم از کم -/100 روپے اور زیادہ سے زیادہ -/1,000 روپے) + کیش منگوانے کے اصل چارجز۔
حصہ ظ: سندھ بینک کی منفرد ڈپازٹ اسکیمز		
(1)	ویمن ایسپاورمنٹ اکاؤنٹ درج ذیل مفت سہولیات حاصل کرنے کیلئے کم از کم -/25,000 روپے بیلنس رکھنا ہوگا۔	
(i)	1 یونین پی، اے ٹی ایم / ڈیبٹ کارڈ۔	
(ii)	25 صفحوں کی 2 چیک بکس سالانہ۔	
(iii)	مجموعی طور پر ایک لاکھ روپے کے برابر ماہانہ پے آرڈرز۔	
(iv)	آن لائن رقم کا کھلوانا اور جمع کروانا (علاوہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے اگر اطلاق ہو)۔	
(v)	ایک چھوٹا لاکھ 5 لاکھ روپے تک کی انشورنس کے ساتھ۔	
(2)	بیگ ٹیلنٹ اکاؤنٹ درج ذیل مفت سہولیات حاصل کرنے کیلئے کم از کم -/10,000 روپے بیلنس رکھنا ہوگا۔	
(i)	10 صفحوں کی 4 چیک بکس سالانہ۔	
(ii)	مجموعی طور پر پچاس ہزار روپے کے برابر ماہانہ پے آرڈرز۔	
(iii)	آن لائن رقم کا کھلوانا اور جمع کروانا (علاوہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے اگر اطلاق ہو)۔	
(3)	سکون کرنٹ اکاؤنٹ (اکاؤنٹ کھولنے کے لئے کم از کم -/10,000 روپے جمع کرانے ہوں گے) درج ذیل مفت سہولیات حاصل کرنے کیلئے کم از کم -/50,000 روپے بیلنس رکھنا ہوگا۔	
(i)	25 صفحوں کی 2 چیک بکس سالانہ۔	
(ii)	10 پے آرڈرز کافی ہفتہ اجراء۔	
(iii)	1 یونین پی، اے ٹی ایم / ڈیبٹ کارڈ۔	
(iv)	اے ٹی ایم سے نکالی گئی رقم چھن جانے کی صورت میں ایک سال میں -/40,000 روپے تک کا تحفظ۔	
(v)	آن لائن رقم کا کھلوانا اور جمع کروانا (علاوہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے اگر اطلاق ہو)۔	
(vi)	موبائل فون سے ٹاپ اپس۔	
(vii)	یوٹیٹی بلز کی ادائیگی۔	
(4)	محترمہ اکاؤنٹ (اکاؤنٹ کھولنے کیلئے کم از کم -/500 روپے جمع کرانے ہوں گے) درج ذیل مفت سہولیات حاصل کرنے کیلئے کرنٹ اکاؤنٹ میں -/25,000 روپے اور سیونگز اکاؤنٹ میں -/100,000 روپے رکھنا ہوں گے۔	
(i)	آن لائن رقم کا کھلوانا اور جمع کروانا (علاوہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے اگر اطلاق ہو)۔	
(ii)	2 پے آرڈرز کافی ہفتہ اجراء۔	
(iii)	2 چیک بکس سالانہ۔	
(iv)	1 چھوٹا لاکھ (بشرطیکہ موجود ہو)۔	
(v)	1 پے پاک کلاسک کارڈ۔	
ڈپازٹ کی گئی رقم کے 90% تک قرض کی سہولت۔ صارف کے قرضے (کنزیومر فنانسنگ) کی فراہمی میں ترجیح۔		

اندرون ملک بینکاری

عمومی اطلاعات :

- (i) وہ تمام کلیکشن اکاؤنٹ یعنی بغیر چیک کے اکاؤنٹ جنکی رقم مستقل ہدایات کی بنیاد پر روزانہ یا مہاد مقررہ پر کسٹمر کے مین کلیکشن اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے وہ ان سروس چارجرز سے مستثنیٰ ہوں گے۔
- (ii) جو کھاتے (الف) طلباء (ب) مستحقین زکوٰۃ (ج) سرکاری یا نیم سرکاری اداروں کے ملازمین جو تنخواہ اور پنشن کی غرض سے رکھیں بشمول وہ کھاتے جو بیوہ / متوفی کے ورثاء پنشن / خیراتی چندے کی وصولی کیلئے رکھیں، درج ذیل اخراجات سے مستثنیٰ ہوں گے۔ (i) کھاتے کا کھولنا، جاری رکھنا اور بند کرنا۔ (ii) پنشن منگوانے کے اخراجات کی وصولی
- (iii) غیر فعال اکاؤنٹس سے کوئی چارجز نہیں لئے جائیں گے۔
- (iv) کوآپریٹو سوسائٹیز، بینولنٹ فنڈ، خیراتی اور فلاحی ادارے اور اسکول منجمنٹ کمیٹیوں کے اکاؤنٹ سے بھی سروس چارجز نہیں لئے جائیں گے۔
- (v) ان طالب علموں سے کوئی سروس چارجز نہیں لئے جائیں گے جو فیس براہ راست تعلیمی ادارے کے فیس کے کلیکشن اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے۔
- (vi) ان کسٹمرز سے جنکے رواں کھاتے میں ماہانہ اوسط بیلنس 4 لاکھ روپے ہو گا ان سے ترسیل زر (صرف اجراء) (ایک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 5 پے آرڈرز بن سکتے ہیں)، اسٹیٹمنٹس، 50 صفحات کی ایک چیک بک اور اکاؤنٹ برقرار رکھنے کے سرفیکلیٹ کے چارجز نہیں لئے جائیں گے۔
- (vii) کاروباری کھاتے میں -/100,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس رکھنے پر "تمام سہولیات والی ایس ایم ایس" سروس مفت ہوگی۔
- (viii) سندھ بینک کا اسٹاف بشمول بیرونی ذرائع سے ٹھیکے پر رکھے گئے ملازمین، ترسیل زر، چیک بک اور اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کے چارجز سے مستثنیٰ ہیں۔ البتہ انہیں عائد شدہ گورنمنٹ کا ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی۔
- (ix) (الف) سندھ بینک کے V.P. تک کے ملازمین سے ایک چھوٹے لاکر کی فیس اور کی ڈیپازٹ پر 50% رعایت ہے۔ (ب) S.V.P. اور اس سے اوپر کے عہدہ دار ایک چھوٹا لاکر بغیر کسی فیس اور کی ڈیپازٹ کے لے سکتے ہیں۔ (ج) بینک کے صدر اور ڈائریکٹر کو یہ سہولت مفت ایک بڑے لاکر پر حاصل ہے۔
- (x) کوریئر اور ڈاک کا خرچہ اصل رقم کے مساوی وصول کیا جائیگا۔
- (xi) فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی / سیلز ٹیکس / صوبائی ٹیکس جو کہ خدمات پر لاگو ہیں، کی وصولی کی جائیگی جہاں پر اسکا اطلاق ہو۔